

## سوجدا سەھوئ

پىك دەيت ژ دوو سوجدا، نقيژكەر پى نقيژا خوه قەدگريت؛ ژ بەر سەھوئ بوونا  
نقيژكەرى د نقيژيدا. و ئەگەر پىن وى ژى سى نه :-

1- زىدەكرن (الزيادة).

2- كيمكرن (التقص).

3- گومان (الشك).

### 1- زىدەكرن (الزيادة)

1- ئەگەر نقيژكەرى رابوونەك يان روينشتنەك يان روكوعەك يان سجوودەك زىدەكر دى  
بى رەنگى بيت :-

- ئەگەر زىدەكرن نەھاتە بىرا نقيژكەرى ھەتا نقيژ ب دووماھى بيت، ل وى دەمى  
دقيت نقيژكەر بچيتە دوو سوجدپن سەھوئ پشتى سلافا ملان .

**نموونه/** نقيژكەرەكى نقيژا نيقرو پينج رەكەت كرن، بەلى نەھاتە بىرا وى ھاتا سلافا ملان  
قەداى، ل وى دەمى دى نقيژكەر چيتە دوو سوجدپن سەھوئ و چ ل سەر نينه.

- ئەگەر زىدەكرن ھاتە بىرا نقيژكەرى د نقيژيدا، دقيت ل وى دەمى نقيژكەر ب زفريت ژ  
وى زىدەھيى و بچيتە دوو سوجدپن سەھوئ بەرى سلافا ملان .

**نموونه/** نقيژكەرەكى نقيژا نيقرو چار رەكەت كرن و ب خەلەتيفە رابوو رەكەتە پينجى  
ل وى دەمى دقيت ئەق نقيژكەرە ب زفريت تەحياتا دووماھيى بخوينيت وبەرى سلافا ملان  
قەدەت دى چيتە دوو سوجدپن سەھوئ.

## 2 - ئەگەر نەقشەكەرى ساقا ملان قەدا بەرى نەقشە ب دووماهی بهیت ب خەلەتیفە دی بفی رەنگی بیت :-

- ئەگەر ھاتە بېرا نەقشەكەرى پشٹی دەمەكی كورت ( 2 یان 3 دەقیقە) ل وی دەمی نەقشەكەر دی نەقشە خوا تەمام كەت و پشٹی ساقا ملان دی چیتە دوو سوجدین سەھوی.  
**نموونه/** نەقشەكەرەکی نەقشە ئیقاری سی رەكەت کرن، بەل پشٹی نەقشە ب ماوی (2 یان 3 دەقیقە) ھاتە بېرا وی کو وی سی رەكەت یین کرین ل وی دەمی دی نەقشە خوا تەمام كەت ئانكو رەكەتە چاری ژی دی كەت و پشٹی ساقا ملان دی چیتە دوو سوجدین سەھوی.

- ئەگەر نەھاتە بېرا نەقشەكەری ھەتا دەمەكی دریش ب سەر نەقشە چووی، ل وی دەمی دقیت نەقشە بهیتە دوبارەكرن ژ دەستپەكی .  
**نموونه/** نەقشەكەرەکی نەقشە ئیقاری سی رەكەت کرن، بەل پشٹی نەقشە ب ماوی (5 یان 10 دەقیقە) ھاتە بېرا وی کو وی سی رەكەت یین کرین ل وی دەمی دقیت ئەو نەقشە خوا دوبارەكەت.

## 2- كیمكرن (النقص)

**1- كیمكرا روكنەکی :** ئەگەر نەقشەكەری تەكیبرا ئیحرامی ژ بیركر ھنگی نەقشە دی بەتال بیت، بەل ئەگەر روكنەکی دی ژبیركر دی بفی رەنگی بیت :-

- ئەگەر روكنەك ژ رەكەتە ئیكی ژ بیركر و بەری بگەھیتە نەفسی روكنی ژ رەكەتە دووی ، ل وی دەمی دقیت نەقشەكەر بزقریت وی روكنی بجه بینیت ویین ل پشٹی وی ژی ھەتا نەقشە ب دووماهی دەھیت، و پشٹی ساقا ملان دی نەقشەكەر چیتە دوو سوجدین سەھوی .  
**نموونه/** نەقشەكەرەکی سوجدەك ژ رەكەتە ئیكی ژبیركر، و دەمی گەھشتیە رەكەتە دووی و دەست ب خواندنا فاتیحی كر، بەل ھاتە بېرا وی کو وی سەجدەك یا ژبیر كری ژ رەكەتە ئیكی، ل وی دەمی دقیت بزقریتە رەكەتە ئیكی و سوجدا كیمكری بجه بینیت،

و پشټی هنگی نفیژا خوه ته‌مام بکه‌ت ژ وی سوجدی هاتا نفیژا خوه ب دووماهی بینیت،  
و پشټی سلافا ملان دی چیته دوو سوجدین سه‌هوی.

– نه‌گهر روکنه‌ک ژ ره‌کعتا ئیکی ژ بیر کر، و ده‌می دگه‌هیته نه‌فسی وی روکنه‌ی ژ  
ره‌کعتا دووی، ل وی ده‌می دی ره‌کعتا ئیکی به‌تال بیت و دی ره‌کعتا دووی هیته جهی  
وی، و دی نفیژ هیته ته‌مام کرن هاتا ب دووماهی دهیت، به‌لی پشټی سلافا ملان دی  
نفیژکه‌ر چیته دوو سوجدین سه‌هوی.

**نمونه /** نفیژکه‌ره‌کی رکوعا ره‌کعتا ئیکی ژبیر کر، و ده‌می گه‌هشتیه رکوعا ره‌کعتا  
دووی، هاته بیرا وی کو وی رکوعا ره‌کعتا ئیکی یا ژبیر کری، ل وی ده‌می دی  
ره‌کعتا ئیکی دی به‌تال بیت و ره‌کعتا دووی هیته جهی وی، و پشټی هنگی نفیژا خوه  
دی ته‌مام که‌ت هاتا ب دووماهی بینیت، و پشټی سلافا ملان دی چیته دوو سوجدین  
سه‌هوی.

### پوکنین نفیژی

- 1– رابوونا ژ پیرفه نه‌گهر بشیت .
- 2– ته‌کبیرا ئیحرامی ( الله اکبر ) .
- 3– خواندنا سوره‌تا فاتحی .
- 4– روکووع .
- 5– رابوون ژ روکووعی .
- 6– سوجوود .
- 7– روونشتن د ناقبه‌را هه‌ردوو سه‌جداندا د گهل گوتنا ( الله اکبر ) .
- 8– ره‌حه‌تی .
- 9– ته‌حییاتا دووماهییی .
- 10– سلافا ( سه‌له‌وات ) دان ل سه‌ر پیغه‌مبه‌ری ( سلافا لی بن )، د ته‌حییاتا دووماهییییدا .
- 11– سلافا ملان .
- 12– ریځخستن ( الترتیب ) د کرنا نفیژیدا .

2- کیمکرنا ئەرکه کی: ئه گهر نفیژکه ری ئەرکه ک ژ ئەرکین نفیژی ژبیرکر، به لی هیش نه چوو به ئەرکی دویفدا هاته بیرا وی ئه و ئەرکی ژبیرکر، ل وی ده می دی وی ئەرکی بجه ئینیت و چ ل سهر وی نینه به لی ئه گهر نه هاته بیرا وی هاتا چوو به روکنی دویفدا، ل وی ده می دی بقی رهنگی بیت :-

- ئه گهر ئەرکه ک ژبیرکر و هاته بیرا وی پشته گه هشیته روکنی پشته وی ئەرکی، ل وی ده می دی نفیژکه نفیژا خوه ته مام که ت هه تا ب دووماهی دهیت، به لی بهری سلافا ملان قه دهت دی نفیژکه چيته دوو سوجدین سه هوی، و چ ل سهر وی نینه.

**نموونه /** نفیژکه ره کی ژبیر کر بیژیت (سمع الله لمن حمده) ده می رابووی ژ رکووعی، و ده می گه هشیته سوجدی هاته بیرا وی کو ئه وی یا ژبیر کری گوتنا (سمع الله لمن حمده) ده می رابووی ژ رکووعی، ل وی ده می دی نفیژکه نفیژا خوه ته مام که ت هه تا بگه هشیته سلافا ملان به لی بهری سلافا ملان قه دهت دی چيته دوو سوجدین سه هوی و پشته هنگی دی سلافا ملان قه دهت.

- ئه گهر ئەرکه ک ژبیرکر به لی بهری بگه هشیته روکنی پشته وی ئەرکی، ل وی ده می دی نفیژکه زفريت وی ئەرکی بجه ئینیت، و دی نفیژا خوه ته مام که ت هه تا ب دووماهی دهیت، به لی پشته سلافا ملان دی نفیژکه چيته دوو سوجدین سه هوی.

**نموونه /** نفیژکه ره کی ژبیر کر بیژیت (سبحان ربی الأعلی) د سوجدا دوویدا ژ ره که هتا دووی، و ده می گه هشیته ته حیاتا ئیکی، هاته بیرا وی کو یا ژبیر کری بیژیت (سبحان ربی الأعلی) د سوجدا دوویدا، ل وی ده می دی نفیژکه زفريت سوجدا دووی و گوتنا (سبحان ربی الأعلی) دی بیژیت، و پشته هینگی دی نفیژا خوه ته مام که ت هه تا ب دووماهی دهیت، به لی پشته سلافا ملان دی نفیژکه چيته دوو سوجدین سه هوی.

### ئەركىن نەيزى

- 1- گوتنا تەكبىراتا ( الله أكبر ) د نابقبەرا روكناندا.
- 2- گوتنا ( سبحان ربى العظيم ) جارەكى د روکووئىدا.
- 3- گوتنا ( سمع الله لمن حمده ) دەمى رابوونى ژ روکووئى.
- 4- گوتنا ( ربنا ولك الحمد ) .
- 5- گوتنا ( سبحان ربى الأعلى ) جارەكى د سوجوودىدا.
- 6- تەحيياتا ئىكى ( التشهد الأول ) و روونشتنا وى.

### 3- گومانا ( الشك )

گومان دەمى بۇ نەيزكەرى چىدبىت د نەيزىدا، نەيزكەر نزانىت كا چەند رەكەت كرىنە  
يان ل كىش روكنىيە يان گەهشيتە كىش ئەركى، و ھندىكە گومانا ژ دوو كاودانا نا  
بورىت ئەو ژى بقى رەنگى نە :-

– ئەگەر گومان بۇ نەيزكەرى چىبوو و نزانى كا رەكەتا ئىككىيە يان يا دوويىيە، بەلى  
ھەقسەنگى ل دەق نەيزكەرى پەيدا بو كو رەكەتا ئىككىيە، ل وى دەمى دى نەيزكەر نەيزا  
خوھ تەمام كەت ل سەر وى ھەقسەنگىيا خوھ، و دى چىتە دوو سوجدىن سەھوى پىشتى  
سلافا ملان.

**نموونه /** نەيزكەرەك دەمى گەھشتىيە رەكەتا سىيى گومان بو وى چىبوو و نزانى كا  
رەكەتا سىيىيە يان يا چارىيە، بەلى ھەقسەنگى ل دەق وى پەيدا بوو كو ( 70٪ ) كو  
رەكەتا سىيىيە، ل وى دەمى دى نەيزكەر نەيزا خوھ تەمام كەت ل سەر وى ھەقسەنگىيە،  
و دى چىتە دوو سوجدىن سەھوى پىشتى سلافا ملان .

– ئەگەر گومان بۇ نەيزكەرى چىبوو و ھەقسەنگى ل دەق پەيدا نەبوو كا رەكەتا دوويىيە  
يان يا سىيىيە، ل وى دەمى دى نەيزكەر ب باوھرىيا خوھ كەت (اليقين)، ئەو ژى كىمترىن

رہکعتہ (ٲانکو رہکعتا دوویہ) ل وی دہمی نفیڑکەر نفیڑا خوہ تہمام کہت ل سہر وی  
باوہریبی. و دی چیتہ دوو سوجدین سہوی بہری سلافا ملان .

**نموونہ /** نفیڑکەرہک دہمی گہشتیہ رہکعتا سیبی گومان بو وی چیبوو و نزانى کا  
رہکعتا سیبیہ یان یا چاریہ، و ل دویف ہفسہنگییا ل دہف وی پیدا بوو کو ( 50٪ )  
کو رہکعتا سیبیہ، و (50٪) رہکعتا چاریہ، ل وی دہمی دی نفیڑکەر ب باوہریبا  
خوہ کہت (الیقین)، ئہو ژى کیمترین رہکعتہ (ٲانکو رہکعتا سیبیہ) نفیڑکەر دی نفیڑا  
خوہ تہمام کہت ل سہر وی باوہریبی. و دی چیتہ دوو سوجدین سہوی بہری سلافا  
ملان